

ROOTWORDS SURAH ZUMAR 53-75

السَّاحِرِينَ	جَنَّبَ	فَرَطْتُ	أَيُّوْا	تَفَنَّنُوا	أَسْرَفُوا
س خ ر	ج ن ب	ف ر ط	ن و ب	ق ن ط	س ر ف
ہنستا رہا۔	حق	میں نے کوتاہی کی / تقصیر	رجوع کرو	ناامید	زیادتیاں کی ہیں
لَيَحْبِطَنَّ	مَقَالِيدُ	بِمَقَارِبِهِمْ	مَشْوَى	مَسْوَدَّةٌ	كِرَّةٌ
ح ب ط	ق ل د	ف و ز	ث و ي	س و د	ك ر ر
توضرور رباد ہو جائیں گے	کنجیاں	ان کی کامیابی کے سبب	ٹھکاند	سیاہ ہوں گے	لوٹنا
سَبَقَ	وَضِعَ	أَشْرَقَتِ	فَصَّيْقَ	مَطْوِيَّاتٌ	قَبَضَتْهُ
س و ق	و ض ع	ش ر ق	ص ع ق	ط و ي	ق ب ض
ہانکے جائیں گے	رکھ دی جائے گی	چمک اٹھے گی	بے ہوش ہو جائے گا	لپٹے ہوں گے۔	اس کی مٹھی میں ہوگی
	خَافِينَ	نَسَبُوا	طَبَّئِمُ	زَمْرًا	
	ح ف ف	ب و أ	ط ي ب	ز م ر	
	حلقہ باندھے ہوئے	ہم رہیں گے	تم مزے میں رہے	گروہ گروہ	